

HSC کے تحریری امتحانات کے دوران COVID-19 safe توقعات

ان معلومات سے طالب علموں کو اپنے HSC امتحان دینے کے دوران COVID-19 safe انتظامات کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔
حاضر طالب علموں اور عملے کی حفاظت اور صحت ہمارے لیے نہایت اہم ہے لہذا ہم سب طالب علموں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ
تمام وقت ان انتظامات میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔

علامات رکھنے والے طالب علموں کا پتہ چلانے کے لیے سکریننگ

- اگر کوئی طالب علم بیمار ہو تو وہ امتحان دینے نہ آئے
- آمد پر طالب علموں سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہیں فلو جیسی کوئی علامات پیش ہیں یا کیا انہیں NSW Health کی
ہدایات کے تحت خود کو سب سے الگ رکھنا چاہیے (سیلف آئسولیشن میں ہونا چاہیے)
- فلو جیسی علامات ظاہر کرنے والے طالب علموں یا اپنی خرابی طبیعت سے آگاہ کرنے والے طالب علموں سے کہا جائے گا کہ
وہ سکول سے چلے جائیں اور اپنا COVID-19 ٹیسٹ کروانے کا انتظام کریں۔
- جن طالب علموں کی ماضی میں ایسی بیماریوں کی تفصیلات موجود ہوں یا جنہیں کوئی ایسی بیماری ہونے کے بارے میں
معلوم ہو جو COVID-19 کی علامات جیسی دکھائی دے سکتی ہے، انہیں اب منصوبہ بندی کرنی چاہیے اور اپنے ڈاکٹر
(GP) سے بات کرنی چاہیے۔ GP تحریری یقینی دہانی فراہم کر سکتا ہے - یعنی لکھ کر دے سکتا ہے کہ طالب علم نارمل
طور پر یہ علامت رکھتا ہے۔

فلو جیسی علامات

فلو جیسی علامات میں بخار، کھانسی، گلے میں درد یا خراش، سانس لینے میں مشکل، چکھنے کی حس کھو دینا اور سونگھنے کی
حس کھو دینا شامل ہیں۔ COVID-19 کی علامات کے بارے میں مزید معلومات [NSW Health website](https://www.nsw.gov.au/health) پر مل سکتی ہیں۔
جو طالب علم بالکل معمولی فلو جیسی علامات رکھتے ہوں، انہیں بھی فوراً چلے جانا چاہیے اور تب تک واپس نہیں آنا چاہیے جب
تک ان کے COVID-19 ٹیسٹ کا نتیجہ منفی نہ آئے اور ان کی علامات ختم نہ ہو چکی ہوں۔

COVID-19 ٹیسٹ کا نتیجہ جلد معلوم کریں

HSC کے طالب علم اپنے COVID-19 ٹیسٹ کا نتیجہ جلد معلوم کر سکتے ہیں۔

اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ:

- ٹیسٹ کروانے کے لیے بتائیں کہ وہ HSC کے طالب علم ہیں
- یہ یقینی بنائیں کہ ان کا ٹیسٹ کرنے والی نرس یا ڈاکٹر ان کی ریفرل پر 'urgent — HSC' لکھیں
- ٹیسٹ کا منفی نتیجہ آنے تک خود کو سب سے الگ رکھیں
- اپنے سکول کو منفی نتیجہ دکھائیں
- اگر 36 گھنٹوں کے اندر ٹیسٹ کا نتیجہ نہ ملے تو کلینک کے دیے ہوئے رابطہ نمبر پر فون کریں۔

مرض کے پھیلاؤ کا خطرہ کم سے کم کرنا

- امتحان شروع کرنے سے پہلے طالب علموں کو اپنے ہاتھ دھونے چاہیے یا ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرنا چاہیے۔
- امتحان کے دوران اچھا ذاتی حفظان صحت برقرار رکھنا چاہیے جس میں کھانسی یا چھینک کو ڈھکنا بھی شامل ہے یعنی کھانستے یا چھینکتے ہوئے اپنی کہنی یا ٹشو پیپر سے منہ اور ناک ڈھکیں، امتحان ختم ہونے پر ٹشو پیپرز پھینک دیں۔
- امتحانات کے دنوں میں دوسرے طالب علموں سے ہاتھ ملانے یا گلے ملنے سے گریز کریں۔
- تمام امتحانی مراکز میں حفظان صحت کے لیے جو چیزیں دستیاب ہوں گی، وہ یہ ہیں:
 - سینیٹائزر
 - وائپس
- طالب علم اگر چاہے تو اپنا امتحان شروع کرنے سے پہلے اپنی میز کو وائپ سے صاف کر سکتا ہے۔
- امتحان سے پہلے یا بعد میں طالب علموں کو بڑے گروپوں میں گھلنے ملنے سے باز رہنا چاہیے۔
- امتحانات کے کمروں کو ہر روز صاف کیا جائے گا۔

آمد اور سائن آن کے انتظامات

- طالب علموں کو امتحان سے زیادہ سے زیادہ 20 منٹ پہلے ہی پہنچنا چاہیے اور سیدھا مقررہ کمرہ امتحان میں سکریننگ اور سائن آن کے لیے اپنی آمد کی اطلاع دینی چاہیے۔
- طالب علموں سے حاضری کی شیٹ پر دستخط کرنے کو کہا جائے گا جس پر وہ امتحان کے لیے حاضری کی تصدیق کریں گے، رابطے کی تفصیلات فراہم کریں گے اور تصدیق کریں گے کہ انہیں فلو جیسی علامات پیش نہیں ہیں۔

متبادل امتحانی مراکز

- آپ کے سکول نے ایک متبادل امتحانی مرکز تجویز کیا ہے تاکہ اگر منصوبے کے مطابق مقررہ مرکز میں امتحان نہ ہو سکے تو متبادل مرکز کو استعمال کیا جائے۔ یہ معلومات آپ کے ذاتی امتحانات کے ٹائم ٹیبل پر فراہم کر دی جائیں گی تاکہ ضرورت پڑنے پر تھوڑی ہی دیر پہلے اطلاع ملنے پر بھی آپ کو یہ معلومات جلد مل جائیں۔
- یہ صرف بیک اپ (متبادل انتظام) کے طور پر ہے اور طالب علموں کو اپنے مقررہ مرکز میں ہی حاضر ہونا چاہیے، سوائے اس کے کہ سکول کوئی اور اطلاع دے۔ اگر آپ کو سکول نے مجوزہ متبادل مرکز میں جانے کے لیے نہ کہا ہو تو متبادل مرکز میں نہ جائیں۔

COVID-19 کے مصدقہ کیس

اگر، امتحانات کے عرصے میں، NSW Health نے سکول کو مطلع کیا کہ COVID-19 کا کوئی مصدقہ کیس ہو چکا ہے جس کی وجہ سے سکول متاثر ہو گا تو ایسے انتظامات موجود ہیں جن سے خلل کو کم سے کم رکھا جائے گا، جہاں یہ ممکن ہو۔ سکول آپ کو ایک دن پہلے اطلاع دے سکتا ہے کہ امتحان کو اس متبادل مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے جو آپ کے ٹائم ٹیبل میں لکھا ہے یا امتحان کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔

بیماری/حادثہ

جو طالب علم علامات رکھنے کی وجہ سے امتحان میں حاضر نہ ہوں یا جنہیں سکریننگ کے نتیجے میں واپس بھیج دیا جائے، وہ بیماری/حادثے کا دعویٰ کرنے کے اہل ہوں گے۔ جہاں ضرورت ہو، آپ کا سکول اس کارروائی میں آپ کی مدد کرے گا۔

ٹیلیفون انٹریپرٹ سروس

اگر آپ کو مزید معلومات کی ضرورت ہے تو اپنے سکول کے پرنسپل کو فون کریں۔ اگر آپ کو بات کرنے کے لیے انٹریپرٹ (زبانی مترجم) کی مدد درکار ہے تو براہ مہربانی 131 450 پر ٹیلیفون انٹریپرٹ سروس کو فون کریں اور اپنی زبان کا انٹریپرٹ مانگیں۔ آپ سے اس سروس کا معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔